

سندھ ایکٹ نمبر XVIII مجریہ ۱۹۹۶

SINDH ACT NO.XVIII OF 1996

پیپلز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل نوابشاہ (ترمیم) ایکٹ،
۱۹۹۶

THE PEOPLE'S MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL NAWABSHAH (AMENDMENT) ACT, 1996

فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

۱۔ مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

۲۔ ۱۹۹۵ کے سندھ ایکٹ XIII کی دفعہ ۱۸ کی ترمیم

Amendment of section 18 of Sindh Act XIII of 1995

سندھ ایکٹ نمبر XVIII مجریہ ۱۹۹۶

SINDH ACT NO.XVIII OF 1996

پیپلز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل نوابشاہ
(ترمیم) ایکٹ، ۱۹۹۶

THE PEOPLE'S MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL NAWABSHAH (AMENDMENT) ACT, 1996

[۶ اکتوبر ۱۹۹۶]

تمہید (Preamble)

ایکٹ جس کی توسط سے پیپلز امیڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل نوابشاہ ایکٹ، ۱۹۹۵ میں ترمیم کی جائے گی۔

مختصر عنوان اور
شروعات

جیسا کہ پیپلز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل نوابشاہ ایکٹ، ۱۹۹۵ میں ترمیم کرنا مقصود ہے، جو اس طرح ہوگی؛

Short title and
commencement

اس کو اس طرح عمل میں لایا جائے گا:
۱۔ (۱) اس ایکٹ کو پیپلز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل نوابشاہ (ترمیم) ایکٹ، ۱۹۹۶ کہا جائے گا۔

۱۹۹۵ کے سندھ
ایکٹ XIII کی دفعہ
۱۸ کی ترمیم

(۲) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔
۲۔ پیپلز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل نوابشاہ ایکٹ، ۱۹۹۵ کی دفعہ ۱۸ میں:

Amendment of
section 18 of
Sindh Act XIII of
1995

(۱) ذیلی دفعہ (۲) کے لیئے، مندرجہ ذیل طریقے سے متبادل بنایا جائے گا:
" (۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت گنجائش نکالی جائے گی اور پیپلز میڈیکل کالج (ترمیم) ایکٹ، ۱۹۹۶ کے

نافذ ہونے کے نوے دن کے اندر حکومت کو پیش کی جائے گی۔"

(۲) ذیلی دفعہ (۳) میں، لفظ "حکومت" کے لیئے لفظ "بورڈ" کو متبادل بنایا جائے گا۔

(۳) ذیلی دفعہ (۳) کے بعد، مندرجہ ذیل نئی دفعہ شامل کی جائے گی:

"(۳) جہاں کوئی شخص جس کی خدمات جو ذیلی دفعہ

(۲) کے طریقے کے تحت نہیں ہے، لیکن اس کی

خدمات عوامی مفاد میں میڈیکل کاليج کو مطلوب ہیں،

تو ایسے شخص کی خدمات اور سابقہ ملازمتی

شرائط و ضوابط کے برعکس ان کے لئے وہ شرائط

و ضوابط ہوں گے، جو حکومت طے کرے گی۔

میڈیکل کاليج کی طرف منتقل کیئے جائیں گے۔"

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا

سکتا۔